

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
Lektion 14	rōstra	rōstrōrum n. Pl.	Rednerbühne (auf dem Forum Romanum)	speaker's platform (in the Forum Romanum)	منبر الخطيب (في المنتدى الروماني)
	cīvis	cīvis m. (Gen. Pl.: cīvium)	Bürger	citizen	مواطن
	ager	agrī m.	Acker	field	حقل (زراعي)
	ager	agrī m.	Feld	field	قطعة أرض / حقل
	pellere	pellō, pepulī	vertreiben	to expel, to drive away	طرد
	probus	-a, -um	anständig	decent, good	لائق
	probus	-a, -um	tüchtig	capable	قادر على / كفء / بارع
	probus	-a, -um	gut	good	جيد
	labōrāre	labōrō	arbeiten	to work	عمل
	labōrāre	labōrō	(+ Abl.): an etwas leiden	to suffer from something	يعاني من شيء
	urgēre	urgeō, ursī	drängen	to insist on sth, to press	اضغط
	urgēre	urgeō, ursī	bedrängen	to pressure	يحث / يشجع على
	ūnus	-a, -um (Gen.: ūnius, Dat.: ūnī)	einer	one, a single	واحد
	grātia	grātia f.	Dank	thankfulness	شكراً
	grātia	grātia f.	Gunst	favour	محاباة / صنيع / نعمة / عفو
	grātia	grātia f.	Beliebtheit	popularity	شعبية
	populus	populī m.	Volk	a people	الناس / الشعب
	lapis	lapidis m.	Stein	stone	حجر
	in	Prāp. + Akk.	in ... (hinein)	into	إلى / في / داخل
	in	Prāp. + Akk.	gegen	against	ضد / مقابل
	in	Prāp. + Akk.	nach	to	إلى
	in	Prāp. + Akk.	auf	on	على
	iacere	iaciō, iēcī	werfen	to throw	رمى
	quod	Konjunktion	weil	because	لأن
	monēre	moneō, monuī	mahnen	to remind	ذكر
	monēre	moneō, monuī	ermahnen	to warn	يلوم / يعاتب
	monēre	moneō, monuī	warnen	to warn	حذر
	auris	auris f. (Gen. Pl.: aurium)	Ohr	ear	أذن
	vincere	vincō, vīcī	siegen	to win	يفوز / ينتصر
	vincere	vincō, vīcī	besiegen	to defeat	تغلب
	glōria	glōriae f.	Ehre	honour	شرف
	glōria	glōriae f.	Ruhm	glory	مجد
	vērō	Adv.	wirklich	truly	حقاً
	vērō	Adv.	tatsächlich	really	فعلاً / بالفعل / في الحقيقة
	sēdēs	sēdis f.	Wohnsitz	residence	سكن / محل الإقامة
	lūxuria	lūxuriae f.	Genusssucht	luxury	تبذير
	avāritia	avāritiae f.	Habgier	greediness	جشع
	avāritia	avāritiae f.	Geiz	stinginess	بخل / شح / حرص
	quamdiū?		wie lange?	how long?	حتى متى؟ / كم المدة؟

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	opprimere	opprimō, oppressī	unterdrücken	to oppress	اضطهد
	lĕx	lĕgis f.	Gesetz	law	قانون
	accipere	accipiō, accēpi	annehmen	to accept	قبل
	accipere	accipiō, accēpi	aufnehmen	to receive	أخذ على عاتقه
	mūtāre	mūtō	verändern	to change	تغير
Lektion 15	īra	īrae f.	Zorn	anger, rage	غضب / غضب / سخط
	ārdēre	ārdēō, ārsī, -	brennen	to burn	حرق
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	der/welcher	he who	هو من / هذا الذي
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	die/welche	she who	هي التي / هي من
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	das/welches	that which	هذه التي / هذا الذي
	obses	obsidis m., f.	(die) Geisel	hostage	رهينة
	obses	obsidis m., f.	(die) Geisel	hostage	رهينة
	nōnnūllī	-ae, -a Pl.	einige	several	العديد من / البعض من
	nōnnūllī	-ae, -a Pl.	manche	some, a few	بعض
	castra	castrōrum n. Pl.	Lager	camp	مخيم
	castra	castrōrum n. Pl.	Kriegslager	military camp	معسكر الحرب
	fallere	fallō, fefellī, -	täuschen	to deceive	خدع
	flūmen	flūminis n.	Fluss	river	نهر
	dūcere	dūcō, dūxī, ductum	führen	to lead	قاد
	tēlum	tēli n.	Geschoss	weapon	قذيفة
	tēlum	tēli n.	Wurfgeschoss	javelin	قذيفة / منجنيق
	iactāre	iactō, iactāvī, iactatūm	werfen	to throw	رمى
	iactāre	iactō, iactāvī, iactatūm	schleudern	to hurl	رمى بعنف
	neque	Konjunktion	und nicht	and not	و لا / و ليس
	neque	Konjunktion	aber nicht	also not	لكن لا
	vulnus	vulneris n.	Wunde	wound	جرح
	recipere	recipiō, recēpi, receptum	aufnehmen	to receive, to take back	استلم
	foedus	foederis n.	Vertrag	treaty	معاهدة / إتفاقية / عقد
	foedus	foederis n.	Friedensvertrag	peace treaty	معاهدة سلام
	foedus	foederis n.	Bündnis	alliance	تحالف
	explēre	explēō, explēvī, explētūm	erfüllen	to fulfil	وفى
	vocāre	vocō, vocāvī, vocātum	rufen	to call	اتصل ب
	vocāre	vocō, vocāvī, vocātum	nennen	to name	سمى
	nūntius	nūntiī m.	Bote	messenger	رسول / حامل رسالة / ساج
	mittere	mittō, misī, missum	schicken	to send	ارسل
	mittere	mittō, misī, missum	wegschicken	to send away	ابعد / طرد
	repetere	repetō, repetīvī, repetitūm	zurückverlangen	to demand back	طالب
	sī	Konjunktion	wenn	if	إذا
	rumpere	rumpō, rūpi, ruptum	brechen	to break	كسر

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	rumpere	rumpō, rūpi, ruptum	zerbrechen	to break apart	حطم
	aliter	Adv.	sonst	otherwise	وإلا
	aliter	Adv.	andernfalls	differently	وإلا
	apud	Präp. + Akk.	bei	at, by, near, among	لدى / عند / في / بجانب
	manēre	maneō, mānsi, mānsūm	erwarten	to expect	توقع
	manēre	maneō, mānsi, mānsūm	bleiben	to stay, to remain	بقي / ظلّ
	Etruscūs	-a, -um	etruskisch	Etruscan	اتروسكان
	Etrūscus	Etrūscī m.	der Etrusker	the Etruscan	الأتروزي / الإيتروسكاني
	reddere	reddō, reddidī, redditum	zurückgeben	to give back	ردّ
	timēre	timēo, timuī, -	sich fürchten	to fear	خاف
	timēre	timēo, timuī, -	Angst haben	to be scared	خاف من
	timēre	timēo, timuī, -	(+Akk. :) Angst haben vor	to be scared of	يخاف من
	libertās	libertātis f.	Freiheit	freedom	حرية
	remittere	remittō, remisī, remissum	zurückschicken	to send back	ردّ
	intereā	Adv.	inzwischen	meanwhile	في غضون / في هذه الأثناء
	intereā	Adv.	in der Zwischenzeit	in the meantime	في هذه الأثناء
	mūtāre	mūtō, mūtāvī, mūtātum	verändern	to change	غير
	mūtāre	mūtō, mūtāvī, mūtātum	verwandeln	to transform	تحول
	virtūs	virtūtis f.	Tapferkeit	courage	بسالة / شجاعة
	virtūs	virtūtis f.	Tugend	virtue	فضيلة
	cōgnoscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erfahren	to learn	تعلم
	cōgnoscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	in Erfahrung bringen	to find out	اكتشف
	cōgnoscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erkennen	to recognise	اعترف
	redīre	redeō, rediī, reditum	zurückkehren	to return	عاد
	redīre	redeō, rediī, reditum	zurückgehen	to go back	عاد
	facinus	facinoris n.	Handlung	action	عمل / تصرف
	facinus	facinoris n.	Tat	deed	عمل / فعل
	laudāre	laudō, laudāvī, laudātum	loben	to praise	مدح
	ob	Präp. + Adv.	wegen	on account of, because of	بسبب
	honor	honōris m.	Ehre	honour	شرف
	afficere	afficiō, affēcī, affectum	mit etw. versehen	to get, to receive	لصق / وضع
	pōnere	pōnō, posuī, positum	stellen	to place	وضع
	pōnere	pōnō, posuī, positum	aufstellen	to put up	نصب / جعله واقفا
	dēfendere	dēfendō, dēfendī, dēfēnsūm	verteidigen	to defend	دافع عن
	scribere	scribō, scripsī, scriptum	schreiben	to write	كتب
	tangere	tangō, tetigī, tāctum	berühren	to touch	لمس
	facere	faciō, fēcī, factum	machen	to make	صنع
	facere	faciō, fēcī, factum	tun	to do	فعل
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	annehmen	to accept	قبل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	accipere	accipiō, accēpi, acceptum	aufnehmen	to receive	استلم
	corrumpere	corrumpō, corrupi, corruptum	verderben	to spoil	افسد
	caedere	caedō, cecidi, caesum	schlachten	to slaughter	ذبح
	caedere	caedō, cecidi, caesum	töten	to kill	قتل
	condere	condō, condidi, conditum	gründen	to found	اسس
	ridere	rideō, risi, risum	lachen	to laugh	ضحك
	ridere	rideō, risi, risum	(+ Akk.): auslachen	to laugh at	ضحك على
	pellere	pellō, pepuli, pulsum	vertreiben	to expel	طرد
	instruere	instruō, instruxi, instructum	anweisen	to instruct	ارشد
	instruere	instruō, instruxi, instructum	unterrichten	to teach	علم / درس
	instruere	instruō, instruxi, instructum	bauen	to build	بنى
	opprimere	opprimō, oppressi, oppressum	unterdrücken	to oppress	اضطهد
Lektion 16	Catō	Catōnis m.	Cato	Cato	كاتو
	gravis	gravis m., gravis f., grave n.	ernst	grave, serious	جدي / بجدية / جاد
	gravis	gravis m., gravis f., grave n.	charakterfest	with strength of character	ثابت / صارم
	comes	comitis m.	Begleiter	companion	رفيق
	prōvincia	prōvinciae f.	Provinz	province	مقاطعة
	mōs	mōris m.	Sitte	custom	عرف / تقليد
	mōs	mōris m.	Brauch	tradition	تقليد / عرف
	illūstris	illūstre	bekannt	prominent	معروف
	illūstris	illūstre	berühmt	famous	مشهور
	cōgnoscere	cōgnoscō, cōgnōvi, cōgnitum	erfahren	to learn	تعلم
	cōgnoscere	cōgnoscō, cōgnōvi, cōgnitum	in Erfahrung bringen	to find out	اكتشف
	cōgnoscere	cōgnoscō, cōgnōvi, cōgnitum	erkennen	to recognise	اعترف
	cōgnoscere	cōgnoscō, cōgnōvi, cōgnitum	kennenlernen	to get to know	تعرف على
	grandis	grande	groß	large, great	كبير / عظيم
	grandis	grande	bedeutend	eminent	مهم / هام
	tunc	Adv.	dann	then	ثم
	tunc	Adv.	damals	at that time	في ذلك الوقت / حينذاك
	varius	-a, -um	verschieden	diverse	مختلف / متنوع
	varius	-a, -um	verschiedenartig	various	مختلف / متنوع
	dividere	dividō, divisi, divisum	teilen	to divide	شارك
	dividere	dividō, divisi, divisum	unterteilen	to divide	قسم
	singulāris	singulāre	einzigartig	unique	فريد
	velut		wie zum Beispiel	just as, like	مثل / على سبيل المثال
	vās	vāsis n.	Gefäß	vessel	وعاء / إناء
	praebere	praebēō, praebui, praebitum	bieten	to offer	زود
	praebere	praebēō, praebui, praebitum	gewähren	to grant	منح
	praebere	praebēō, praebui, praebitum	anbieten	to offer	منح

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	omnis	omne	jeder	every	كل / أي
	omnis	omne	ganz (Singular)	entire	كامل (المفرد)
	omnis	omne	alle (Plural)	all	الكل / الجميع
	ubi	Konjunktion	als	when	عندما / لما
	ubi	Konjunktion	sobald	as soon as	في أقرب وقت / بمجرد أن
	rēgius	-a, -um	königlich	royal	ملكي
	audāx	Gen. audācis	wagemutig	bold	جريء / جسور
	audāx	Gen. audācis	frech	cheeky, daring	صفيق / وقح
	audēre	audeō	wagen	to dare	تجرأ
	agere	agō, ēgī, āctum	handeln	to act	تصرف / نفذ
	agere	agō, ēgī, āctum	tun	to do	فعل
	alius	alia, aliud (Gen.: alterius, Dat.: aliī)	ein anderer	another	آخر
	aliī	-ae, -a	andere	other	آخرون
	aliī ... aliī		einige ... andere	some ... others	البعض ... والبعض الآخر
	modus	modī m.	Art	manner	طريقة
	modus	modī m.	Weise	way	طريقة / كيفية
	dōnāre	dōnō	schenken	to give (as a present)	اعطى
	fēlix	Gen. fēlicis	glücklich	happy	سعيد
	ingēns	Gen. ingentis	ungeheuer groß	huge, enormous	مفرط الضخامة / مفرط في كبر الحجم
	celer	celeris, celere	schnell	fast	سريع
	accēdere	accēdo, accessī, accessum	sich nähern	to approach	اقترب
	accēdere	accēdo, accessī, accessum	herbeikommen	to come	اقترب
	ācer	ācris, ācre	energisch	firm	عنيف / شرس / بجوية
	ācer	ācris, ācre	hitzig	heated	مسخن / حار / حاد / ساخن / متوتر
	ācer	ācris, ācre	scharf	sharp	حاد
	sibī	Dat.	sich	himself	نفسه / نفسها
	parāre	parō	vorbereiten	to prepare	جهز
	parāre	parō	zubereiten	to cook	طبخ
	parāre	parō	(+ Inf. :) sich vorbereiten, etwas zu tun	to prepare to do something	يستعد / يعد العدة للقيام بشيء
	parāre	parō	verschaffen	to obtain	حصل على
Lektion 17	Caesar	Caesaris m.	Caesar	Caesar	قيصر
	procul	Adv.	weit (weg)	far	بعيداً
	procul	Adv.	in der Ferne	in the distance	في البعيد / في البعد
	pīrāta	pīratae m.	Seeräuber	pirate	قرصان
	pīrāta	pīratae m.	Pirat	pirate	قرصان
	brevis	breve	kurz	short	قصير
	dux	ducis m.	Anführer	leader	زعيم / قائد
	nōbillis	nōbile	adlig	aristocratic	أرستقراطي
	nōbillis	nōbile	vornehm	noble	نبيل / شريف / وجيه

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	dīves	Gen. dīvitis (Abl. Sg. : -e, Nom. Pl. n. : -a, Gen. Pl. : -um	reich	rich, wealthy	غني
	solvere	solvō, solvī, solūtum	zahlen	to pay	دفع
	solvere	solvō, solvī, solūtum	bezahlen	to pay for	دفع مقابل
	vīgintī		zwanzig	twenty	عشرون
	nūllus	-a, -um (Gen. : nūllius, Dat. : nūllī)	keiner	no one	لا أحد
	terrēre	terreō, terruī, territum	erschrecken	to frighten	فزع
	tantum	Adv.	nur	only	فقط
	pōscere	pōscō, popōsci, -	fordern	to demand	طلب
	putāre	putō	glauben	to believe	اعتقد
	putāre	putō	meinen	to think	عنى / قصد
	quīnquāgintā		fünfzig	fifty	خمسون
	capere	capīō, cēpī, captum	fangen	to capture	مسك
	capere	capīō, cēpī, captum	ergreifen	to seize	استولى / مسك
	capere	capīō, cēpī, captum	erobern	to conquer	استولى
	capere	capīō, cēpī, captum	gefangen nehmen	to take sb prisoner	قبض على
	propinquus	-a, -um	nahe	near	قريب / قرب
	propinquus	-a, -um	benachbart	neighbouring	قريب من
	colligere	colligō, collēgī, collēctum	sammeln	to collect	جمع
	sē gerere	gerō, gessi, gestum	sich verhalten	to behave	تأدب
	cum	Konj. + Impf.	jedes Mal wenn	whenever	في كل مرة (عندما)
	dormire	dormiō	schlafen	to sleep	نام
	carmen	carminis n.	Gedicht	poem	قصيدة
	carmen	carminis n.	Lied	song	أغنية
	recitāre	recitō	vorlesen	to read aloud, recite	قرأ بصوت عال
	laus	laudis f.	Lob	praise	مدح / ثناء
	audācia	audāciae f.	Frechheit	audacity	وقاحة / صفاقة
	audācia	audāciae f.	Mut	courage	شجاعة
	perturbāre	perturbō	verwirren	to confuse	شوش
	perturbāre	perturbō	in Unruhe versetzen	to trouble	زعزع
	captivus	captīvī m.	Gefangener	prisoner	أسير
	an?	Konjunktion	oder (etwa)?	or, or rather	أليس كذلك؟
	supplicium	supplicīi n.	Todesstrafe	death penalty	عقوبة الإعدام
	expōnere	expōnō, exposuī, expositum	aussetzen	to release	أجل / أرجأ تنفيذ حكم
	proximus	-a, -um	der nächste	the next	التالي
	īnstāre	īnstō, īnstīti, -	bevorstehen	to await	لوح في الأفق
	īnstāre	īnstō, īnstīti, -	drohen	to threaten	هدد
	īnstāre	īnstō, īnstīti, -	verfolgen	to pursue	تابع
	carcer	carceris m.	Gefängnis	prison	سجن
	timor	timōris m.	Furcht	fear	خوف

Lektion	Latin		Deutsch	Englisch	Arabisch
	timor	timōris m.	Angst	fear	خوف
	amor	amōris m.	Liebe	love	حب
	terror	terrōris m.	Schrecken	terror, panic	رعب
Lektion 18	Cicerō	Cicerōnis m.	Cicero	Cicero	شيشرون
	Catilina	Catilinae m.	Catilina	Catiline	كاتيلينا
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht kennen	not to know	عدم المعرفة
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht wissen	to be unaware of	عدم المعرفة
	et	Konjunktion	und	and	و
	et ... et	Konjunktion	sowohl ... als auch	both ... and	طالما / سواء أن / على حد سواء
	patrēs cōscriptī	patrum cōscriptōrum m. Pl.	Senatoren	senators	أعضاء مجلس الشيوخ
	coniūrātiō	coniūrātiōnis f.	Verschwörung	conspiracy	مؤامرة
	iste	ista, istud	dieser da	that	هذا
	immō	Adv.	vielmehr	on the contrary	بل / إنما
	immō	Adv.	ja sogar	even	نعم، وحتى
	contemnere	contemnō, contempsi, contemptum	verachten	to despise	احتقر
	interesse	intersum, interfuī, -	sich dazwischen befinden	to be between	كان بين شيئين
	interesse	intersum, interfuī, -	(+ Dat. :) an etw. teilnehmen	(+dative:) to attend	يشترك في
	nostrum	Gen. von nōs	von uns	of us	منا
	nōndum	Adv.	noch nicht	not yet	ليس بعد
	dēligere	dēligō, dēlēgi, dēlēctum	auswählen	to choose	اختار
	patēre/patet	pateō, patuī, -	offenbar sein	to be obvious	كان واضحاً
	patēre/patet	pateō, patuī, -	offen stehen	to be open	كان مفتوحاً
	patet	+ Acl	es ist offenbar, dass ...	it is obvious that ...	من الواضح أن ...
	satis	Adv.	genug	enough	كاف
	satis est	+ Acl	es ist genug, dass ...	it is enough that ...	يكفي أن ...
	latēre	lateō, latuī, -	verborgen sein	to be concealed	كان غير واضح
	latēre	lateō, latuī, -	versteckt sein	to be hidden	كان مخفياً
	vestrum	Gen. von vōs	von euch	of you	منكم / بخصمكم
	salvus	-a, -um	gesund	healthy	صحي
	salvus	-a, -um	wohlbehalten	well, unharmed	سالم / حسن / في حالة طيبة
	nēmō	Gen. : nūllius, Dat. : nēminī, Akk. : nēminem, Abl. : nūllō	niemand	no one	لا أحد
	dēsinerere	dēsino, dēsii, dēsitum	aufhören	to cease, to stop	توقف
	quamdū	Konjunktion	so lange (wie)	as long (as)	طالما
	Rōmae		in Rom	in Rome	في روما
	pars	partis f.	Teil	part	جزء / قطعة / حصّة
	incendere	incendō, incendī, incēnsūm	in Brand stecken	to set on fire	شعل ناراً
	incendere	incendō, incendī, incēnsūm	entflammen	to kindle	تأجج
	proinde	Adv.	also	therefore	أيضاً
	proinde	Adv.	deswegen	therefore	ولذلك

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	excēdere	excēdō, excessī, excessum	hinausgehen	to go out	خرج
	excēdere	excēdō, excessī, excessum	sich entfernen	to depart from sth	التسحب
	relinquere	relinquō, reliquī, relictum	zurücklassen	to leave behind	ترك خلفه
	relinquere	relinquō, reliquī, relictum	verlassen	to leave	غادر
	ūnā	Adv.	zusammen	together	سويا / معاً
	ōrātiō	ōrātiōnis f.	Rede	speech	خطاب / حديث
	arcēre	arcēō, arcuī, -	abwehren	to repel	صد / رفض
	arcēre	arcēō, arcuī, -	fernhalten	to keep off, to ward off	ابتعد
	tēctum	tēctī n.	Dach	roof	سقف
	tēctum	tēctī n.	Haus	house	منزل / بيت
	aeternus	-a, -um	ewig	eternal	ابدي / سرمدي
Sequenz 4: Abschluss	orbis	orbis m.	Kreis	circle	دائرة
	orbis terrārum		Erdkreis	globe	كرة أرضية
	orbis terrārum		Erde	earth	أرض
	imperium	imperīi m.	(römisches) Reich	(Roman) empire	الإمبراطورية (الرومانية)
	insidiae	insidiārum f. Pl.	Hinterhalt	ambush	كمين
	cōstituere	cōstituō, cōstituī, cōstitutum	beschließen	to decide	قرر
	probāre	probō	prüfen	to examine	فحص
	probāre	probō	erproben	to test	اختبر
	suscipere	suscipiō, suscipī, susceptum	übernehmen	to undertake	تعهد
	dubitāre	dubitō + Inf.	zögern (etw. zu tun)	to hesitate (to do sth)	تردد
	regiō	regiōnis f.	Gegend	region	منطقة
	ōrnāre	ōrnō	ausrüsten	to equip	جهز
	lēgātus	lēgātī m.	Unterfeldherr	legate	ملازم (رتبة عسكرية)
	ut	Konjunktion	wie	as, just as	مثل / كـ
	spērāre	spērō	hoffen	to hope	أمل
	māximē	Adv.	am meisten	most	معظم
	māximē	Adv.	besonders	especially, particularly	خصوصاً / ولا سيما
	contendere	contendō, contendī, contentum	1. behaupten	1. to contend	زعم
	contendere	contendō, contendī, contentum	2. eilen	2. to hurry	أسرع
	classis	classis f.	Kriegsflotte	fleet	أسطول حربي
	comparāre	comparō	ausrüsten	to equip	جهز
	comparāre	comparō	aufstellen	to raise	أعد / جهز
	contingit	contigit	es gelingt	it happens	إنتهى الأمر على (خير)
	contingit	contigit	es glückt	to be successful	نجح الأمر
	numerus	numērī m.	Zahl	number	عدد / رقم
	praetereā	Adv.	außerdem	moreover, in addition	بالإضافة إلى
	agricola	agricolae m.	Bauer	farmer	مزارع / فلاح
	dicere	dicō, dixī, dictum	sagen	to say	قال

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	dicere	dīcō, dīxī, dictum	nennen	to name	سمى
Lektion 19	Ulixēs	Ulixīs m.	Odysseus	Odysseus	أوديسوس
	Circē	Circae f.	Kirke	Circe	سيرس
	vīvere	vīvō, vīxī, –	leben	to live	عاش
	īter	ītineris n.	Weg	way	طريق
	īter	ītineris n.	Fahrt	journey	رحلة / سفر
	cōstituere	cōstituō, cōstituī, cōstitutum	beschließen	to decide	قرر
	ōrnāre	ōrnō	ausrüsten	to equip	جهز
	docēre	doceō, docuī, doctum	unterrichten	to inform	أصدر تعليمات
	docēre	doceō, docuī, doctum	lehren	to teach	درس
	imprimis	Adv.	vor allem	above all	قبل كل شيء
	imprimis	Adv.	besonders	especially, particularly	خصوصاً / ولا سيما
	Sirēnēs	Sirēnum f. Pl.	Sirenen	sirens	صفرات الإنذار
	nāvigāre	nāvigō	segeln	to sail	أبحر
	īnsula	īnsulae f.	Insel	island	جزيرة
	situs	-a, -um	befindlich	lying	واقع في / يقع في
	situs	-a, -um	gelegen	positioned	واقع في / مثبت / محدد موضعه
	prope	Prāp. + Akk.	nahe bei	near	قريب من
	prope	Prāp. + Akk.	in die Nähe (von)	near by	في محيط... / بالقرب من ...
	dulcis	dulce	süß	sweet	حلو
	dulcis	dulce	angenehm	pleasant	ممتع
	vērō	Adv.	wirklich	really	حقاً
	vērō	Adv.	tatsächlich	actually	فعلاً / بالفعل / في الحقيقة
	vērō	Adv.	aber	in truth	لكن
	cōgere	cōgō, cōgēi, cōactum + Akk. + Inf.	jdn. zwingen, etw. zu tun	to force so to do sth	أجبر شخصاً على فعل شئ
	numquam	Adv.	niemals	never	أبداً
	accidere	accidō, accidī, –	geschehen	to happen, to occur	حدث
	accidere	accidō, accidī, –	zustoßen	to happen to	حدث لـ
	memoria	memoriae f.	Gedächtnis	memory (the ability to remember)	ذاكرة / تذكر (الفترة على الحفظ)
	memoria	memoriae f.	Erinnerung	memory (something memorised)	ذكرى
	unda	undae f.	Welle	wave	موجة
	unda	undae f.	Flut	flood	فيضان
	āmittere	āmittō, āmisi, āmissum	verlieren	to lose	خسر
	monēre	moneō, monuī, monitum	mahnen	to remind	ذكر
	monēre	moneō, monuī, monitum	ermahnen	to admonish	عاتب
	monēre	moneō, monuī, monitum	warnen	to warn	حذر
	solvere	solvō, solvī, solūtum	zahlen	to pay	دفع
	solvere	solvō, solvī, solūtum	bezahlen	to pay for	لنفع مقابل
	solvere	solvō, solvī, solūtum	lösen	to loosen	حل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	solvere	solvō, solvī, solūtum	losbinden	to untie	فك
	postquam	Konjunktion + Perf.	nachdem	after	بعد / بعد أن
	praeter	Präp. + Akk.	an ... vorbei	past	تجاوز شيء
	dum	Konjunktion + Präs.	während	while, as	أثناء
	frūstrā	Adv.	vergeblich	in vain	بلا فائدة / دون طائل
	frūstrā	Adv.	umsonst	for nothing	بدون مقابل / بلا جدوى / مجاني
	vinculum	vinculī n.	Fessel	tie	قيود / قيد
	neglegere	neglegō, neglēxī, neglēctum	nicht beachten	to ignore	تجاهل
	neglegere	neglegō, neglēxī, neglēctum	vernachlässigen	to neglect	همل
	effugere	effugiō, effūgī, –	entfliehen	to flee	هرب
	effugere	effugiō, effūgī, –	entkommen	to escape	هرب
Lektion 20	is	is m., ea f., id n. Dem.-Pron.	dieser	this, that	هذا
	is	is m., ea f., id n. Dem.-Pron.	der(jenige)	he (who)	هو (من)
	nōn modo ... sed etiam		nicht nur ... sondern auch	not only ... but also	ليس فقط ... وإنما أيضا
	bestia	bestiae f.	(wildes) Tier	beast	حيوان (بري)
	diēs	diēi m.	Tag	day	يوم
	nūptiae	nūptiārum f. Pl.	Hochzeit	wedding	زواج
	pēs	pedis m.	Fuß	foot	قدم
	pēs	pedis m.	Fuß als Längenmaß(ca. 30 cm)	foot (a measure of length, ca. 30 cm)	قدم كوحدة للطول (= 30 سم)
	perniciēs	perniciēi f.	Verderben	ruin	موت / هلاك / فناء
	rēs	rei f.	Sache	thing, matter	شيء / حالة
	rēs	rei f.	Vorfall	affair	حدث / حادث / واقعة
	flēre	flēō, flēvī, flētum	(be)weinen	to weep over	يبكي بشأن / يبكي على
	plēnus	-a, -um + Gen.	voll	full	كامل / تام
	dolor	dolōris m.	Schmerz	grief, sorrow	الم
	commovēre	commoveō, commōvī, commōtum	bewegen	to affect	تحرك
	commovēre	commoveō, commōvī, commōtum	veranlassen	to arrange (for)	رتب من أجل
	commovēre	commoveō, commōvī, commōtum	(jdn.) rühren	to move someone (emotionally)	أثر شخصا (عاطفيا)
	Plūtō	Plūtōnis m.	Pluto	Pluto	بلوتو
	rēgīna	rēgīnae f.	Königin	queen	ملكة
	pergere	pergō, perrēxī, perrēctum	etw. weiter tun	to continue	واصل
	pergere	pergō, perrēxī, perrēctum	fortsetzen	to proceed, to continue	مضى قدما / استأنف
	dēmum	Adv.	endlich	finally, at last	أخيرا
	pervenīre	pervenīō, pervēnī, perventum	gelangen	to reach, to arrive at	وصل
	spēs	speī f.	Hoffnung	hope	أمل
	cōnsistere	cōnsistō, cōnstitī, –	sich aufstellen	to stand up	اتخذ موقفا
	cōnsistere	cōnsistō, cōnstitī, –	Halt machen	to stop	توقف
	fidēs	fideī f.	Schutz	protection	حماية
	fidēs	fideī f.	Beistand	support	دعم / مساندة

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	ōrāre	ōrō	(er)bitten	to ask (for)	طلب
	quaesō		(ich) bitte!	please!	من فضلك! رجاء!
	salūs	salūtis f.	Wohlergehen	well-being	رفاهية / رخاء
	mandāre	mandō	übergeben	to entrust, to put in hand	عهد إلى / سلم
	turba	turbae f.	Menge	crowd	كثرة / حشد / أغلبية / جماهير
	optāre	optō	wünschen	to wish	تمنى
	lūx	lūcis f.	Licht	light	ضوء / نور
	lūx	lūcis f.	Tageslicht	daylight	ضوء النهار
	animus	animī m.	Geist	mind	عقل
	animus	animī m.	Gemüt	nature	طبيعة / نفس / روح
	animus	animī m.	Herz	heart	قلب
	animus	animī m.	Mut	courage	شجاعة
	abesse	absum, āfūī, –	weg sein	to be absent	غاب
	abesse	absum, āfūī, –	entfernt sein	to be away from	غاب
	dēsiderium	dēsideriī n.	Sehnsucht	longing	شوق / حنين
	superāre	superō	überwinden	to overcome	تغلب على
	superāre	superō	überwältigen	to overpower	تغلب على
	ē, ex	Präp. + Abl.	aus (... heraus)	(out) of	خارج من / من / منذ
	ē, ex	Präp. + Abl.	von	from	من / من عند
	ē, ex	Präp. + Abl.	seit	since	منذ
Lektion 21	reducere	redūcō, redūxī, reductum	zurückführen	to lead back	يرجع ه إلى / يرد ه إلى
	reducere	redūcō, redūxī, reductum	hinbringen	to bring	أحضر
	grātia	grātia f.	Dank	thankfulness	شكر / امتنان
	grātia	grātia f.	Gunst	favour	محاباة / صنيع / نعمة / عفو
	grātia	grātia f.	Beliebtheit	popularity	شعبية
	grātiās agere	grātiās agō, ēgi, āctum	danken	to thank	شكر
	grātiās agere	grātiās agō, ēgi, āctum	Danke sagen	to say thank you	ابدى شكره
	māximē	Adv.	am meisten	most	الأكثر
	aurum	aurī n.	Gold	gold	ذهب
	prūdēns	Gen. prūdētis prūdēnter Adv.	klug	smart	ذكي
	prūdēnter	Adv.	klug	wisely, prudently	بذكاء / بظننة
	fidēs	fideī f.	Schutz	protection	حماية
	fidēs	fideī f.	Beistand	support	دعم / مساندة
	fidēs	fideī f.	Zuverlässigkeit	reliability	موثوقية / ثقة / اعتماد على
	fidēs	fideī f.	Treue	loyalty	ولاء / إخلاص
	temptāre	temptō	versuchen	to try	حاول
	temptāre	temptō	prüfen	to test	فحص
	temptāre	temptō	auf die Probe stellen	to test	اختبر
	arbor	arboris f.	Baum	tree	شجرة

Lektion	Latin		Deutsch	Englisch	Arabisch
	trahere	trahō, trāxī, tractum	ziehen	to pull	سحب
	tenēre	teneō, tenuī, tentum	halten	to hold	ممسك
	mīrus	-a, -um	wunderbar	wonderful	رائع
	mīrus	-a, -um	erstaunlich	astonishing	مذهل
	cōspicere	cōspiciō, cōspēxī, cōspectum	erblicken	to notice, to catch sight of	لمح
	cōspicere	cōspiciō, cōspēxī, cōspectum	sehen	to see	رأى
	ingere	ingō, finxī, fictum	vorstellen	to imagine	تخيل
	ingere	ingō, finxī, fictum	ausdenken	to feign, to deceive	فكر في
	(ab- / ad- / ex- / per- / red- / sub-) iēns	Gen. euntis	PPA von ire	Present Active Participle of ire	اسم الفاعل من (ire)
	cēnāre	cēnō	speisen	to dine	تتناول الطعام
	cēnāre	cēnō	die Hauptmahlzeit zu sich nehmen	to eat one's main meal	أكل الوجبة الرئيسية
	pōculum	pōculī n.	Becher	goblet	قدح كبير
	vīnum	vīnī n.	Wein	wine	نبيذ
	ōs	ōris n.	Mund	mouth	فم
	cibus	cibī m.	Speise	food	طعام
	dīvitiae	dīvitiārum f. Pl.	Reichtum	riches, wealth	ثروات / ثروة
	modo	Adv.	bloß	just	فقط
	modo	Adv.	nur	only	فقط
	modo	Adv.	gerade (eben)	just now	الآن فقط / منذ وهلة
	sic	Adv.	so	thus, just like that, so	إنذاً / وبالتالي / هكذا
	torquēre	torqueō, torsi, tortum	foltern	to torture	عذب
	stultus	-a, -um	dumm	stupid	غبي
	venia	veniae f.	Verzeihung	mercy, forgiveness	مغفرة
	error	errōris m.	Irrfahrt	wandering	ملمحة
	error	errōris m.	Irrtum	error	خطأ
	error	errōris m.	Fehler	mistake	خطأ
	nisi	Konjunktion	wenn nicht	if not	إن لم
	liberāre	liberō	befreien	to liberate	حرر
Lektion 22	Alexander	Alexandrī m.	Alexander	Alexander	الেকسندر
	obtinēre	obtimeō, obtinui, obtentum	erhalten	ro receive	حصل على
	obtinēre	obtimeō, obtinui, obtentum	innehaben	to hold	يمسك / يحمل
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : cīvītātium)	Bürgerschaft	citizenship	المواطنين
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : cīvītātium)	Staat	state	دولة / ولاية
	cōfirmāre	cōfirmō	bestätigen	to confirm	أكد
	sē	Akk.	sich	himself	نفسه / نفسها
	sē	Akk.	im Acci auch: er, sie, ihn; sie (Pl.)	in the accusative and infinitive also: he, she, him; they	في النصب مع صيغة المصدر أيضا: هو / هي؛ هم/هن
	praestāre	praestō, praestiti, –	sich hervortun	to stand out	برز
	praestāre	praestō, praestiti, –	sich auszeichnen	to excel	تفوق
	praestāre	praestō, praestiti, –	besser sein	to be superior	كل أفضل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	praestāre	praestō, praestitī, –	zeigen	to show	أظهر
	prō certō habēre	prō certō habeō, habuī, habitum	für sicher halten	to consider safe	اعتبر الشيء آمناً
	prō certō habēre	prō certō habeō, habuī, habitum	sich sicher sein	to be sure	تأكد
	sibī	Dat.	sich	himself/herself/itself/oneself	نفسه / نفسها
	sibī	Dat.	im Acl auch: ihm, ihr, ihn	in the accusative and infinitive also: him, her	في النصب مع صيغة المصدر أيضاً: له / لها
	sub	Präp. + Abl.	unter	under	تحت
	imperium	imperīi n.	Befehl	command	طلب / أمر
	imperium	imperīi n.	Herrschaft	rule	ملك / سلطة / حكم
	libenter	Adv.	gern	with pleasure	بكل سرور
	mōs	mōris m.	Sitte	custom	عرف / تقليد
	mōs	mōris m.	Brauch	tradition	تقليد / عرف
	mōrēs	mōrum m. Pl.	Charakter	character	شخصية
	Diogenēs	Diogenis m.	Diogenes	Diogenes	ديوجين
	velle	volō, voluī, –	wollen	to want	أراد
	velle	volō, voluī, –	wünschen	to wish	تمنى
	dictum	dictī n.	Äußerung	remark	بيان
	dictum	dictī n.	Ausspruch	saying	قول / حكمة
	fidēlis	fidēle	treu	loyal, faithful	مخلص
	imperāre	imperō	befehlen	to order	طلب
	hūc	Adv.	hierher	here (hither)	هنا (إلى هنا)
	hūc	Adv.	hierhin	to this place	لهذا المكان (إلى هنا)
	inopia	inopiae f.	Armut	poverty	فقر
	inopia	inopiae f.	Not	need	حاجة
	praedicāre	praedicō	rühmen	to praise	مجد
	praedicāre	praedicō	lobend hervorheben	to proclaim	ابرز مع مدح
	nūntiāre	nūntiō	melden	to announce	أعلن
	convenīre	conveniō, convēni, conventum	treffen	to meet	اجتمع
	convenīre	conveniō, convēni, conventum	(mit jdm.) zusammenkommen	to assemble, to come together	اجتمع مع (شخص ما)
	philosophus	philosophī m.	Philosoph	philosopher	فيلسوف
	tantum ... quantum		so viel ... wie	as much ... as	بقدر ما / عدد كبير ... مثل
	tantum ... quantum		so weit ... wie	as far as	بقدر ما / إلى حد / بعيد مثل
	turpis	turpe	schimpflich	shameful	مخجل
	turpis	turpe	hässlich	ugly	قبيح
	mēnsis	mēnsis m. (Gen. Pl. : mēnsium)	Monat	month	شهر
	intermittere	intermittō, intermisi, intermissum	einschieben	to interrupt	أدخل / أوقف
	intermittere	intermittō, intermisi, intermissum	verstreichen lassen	to let pass	يتركه يمر / يفوت / يضيع
	contrā	Präp. + Akk.	gegen	against	ضد / مقابل
	cōnscrībēre	cōnscrībō, cōnscrīpsi, cōnscrīptum	anwerben	to recruit	وظف
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht kennen	not to know	عدم المعرفة

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht wissen	not to know	عدم المعرفة
	nōn īgnōrāre	nōn īgnōrō	sehr gut kennen	to know well	علم جيداً
	nōn īgnōrāre	nōn īgnōrō	wissen	to know	علم
	paulum	Adv.	ein wenig	(a) little	القليل
	sōl	sōlis m.	Sonne	sun	شمس
Sequenz 5: Abschluss	labyrinthus	labyrinthī m.	Labyrinth	labyrinth	متاهة
	aedificāre	aedificō	bauen	to build	يبني
	mōnstrum	mōnstrī n.	Ungeheuer	beast	غول / وحش
	mōnstrum	mōnstrī n.	Monster	monster	منسخ
	inclūdere	inclūdō, inclūsī, inclūsus	einschließen	to include	تضمن
	negōtium	negōtīi n.	Auftrag	order	طلب
	negōtium	negōtīi n.	Aufgabe	task	مهمة / مهام
	perficere	perficiō, perfēcī, perfectum	ausführen	to carry out	نفاذ
	perficere	perficiō, perfēcī, perfectum	vollenden	to complete, to accomplish	كامل
	annus	annī n.	Jahr	year	عام / سنة
	precēs	precum n. Pl.	Bitte(n)	request, prayer	رجاء / طلب
	caelum	caelī n.	Himmel	sky	سما
	volāre	volō	fliegen	to fly	طار
	āla	ālae n.	Flügel	wing	جناح
	fuga	fugae f.	Flucht	flight (escape)	هروب
	compōnere	compōnō, composuī, compositum	zusammensetzen	to build	ألف / جمع
	compōnere	compōnō, composuī, compositum	zusammenfügen	to join	ضم
	corpus	corporis n.	Körper	body	جسم / جسد
	sevērus	-a, -um	ernsthaft	serious	جدي / بجدية / جاد
	sevērus	-a, -um	streng	strict	صارم
	pārēre	pārēdō, pārūī, –	gehören	to obey	أطاع
	altum	altī n.	Höhe	height	ارتفاع
	paulātīm	Adv.	nach und nach	little by little	تدريجاً
	paulātīm	Adv.	allmählich	gradually	تدرجياً
	unda	undae f.	Welle	wave	موجة
	unda	undae f.	(Pl. :) Meer	sea	البحر / البحار
	cadere	cadō, cecidī, –	fallen	to fall	سقط
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Geschicklichkeit	skill	مهارة
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Kunst	art	فن
Lektion 23	Scīpiō	Scīpiōnis m.	Scipio	Scipio	سكيبو
	Hannibal	Hannibalī m.	Hannibal	Hannibal	هاننبال
	proelium	proeliī n.	Kampf	fight	قتال
	quem?	Akk.	wen?	whom?	من؟ (في حالة النصب)
	māximus	-a, -um	der größte	the greatest	الأعظم

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	imperātor	imperātōris m.	Kaiser	emperor	إمبراطور
	imperātor	imperātōris m.	Feldherr	military commander	قائد عسكري
	putāre	putō	glauben	to consider, to regard	اعتقد
	putāre	putō	meinen	to consider	قصد
	putāre	putō	jdn. für etw. halten	to consider someone (+ adjective or noun)	اعتبره
	fundere	fundō, fūdī, fūsum	zerstreuen	to scatter	فرق / نثر
	fundere	fundō, fūdī, fūsum	forttreiben	to drive away	أبعد
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	jener	that one	هذا الذي
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	der dort	that one there	هذا الذي هناك
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	jener berühmte	that famous	ذلك المشهور
	causa	causae f.	Grund	reason	سبب / علة / دافع
	causa	causae f.	Ursache	cause	سبب / علة
	gēns	gentis f. (Gen. Pl.: gentium)	Volksstamm	tribe	قبيلة
	praetereā	Adv.	außerdem	besides, in addition	بالإضافة إلى
	duō	duō (m.), duae (f.), duō (n.)	zwei	two	اثنان
	neque	Konjunktion	und nicht	and not	و لا / و ليس
	neque	Konjunktion	aber nicht	but not	لكن لا
	neque	Konjunktion	auch nicht	neither	لا هذا ولا ذلك / لا ... ولا
	tertius	-a, -um	der dritte	the third	الثالث
	vincere	vincō, vīci, victum	siegen	to win	فاز
	vincere	vincō, vīci, victum	besiegen	to defeat	تعلم على
	cōpia	cōpiārum f. Pl.	Truppen	troups	الجند / الجيش / فرق الجيش
	nōmināre	nōminō	jdn. etwas nennen	to name	ذكر شخصا بشيء
	ō(h)!		oh	O!	أوه
	ō(h)!		ach	well, ...	حسناً / ...
	scīlicet	Adv.	selbstverständlich	of course	بالتأكيد
	scīlicet	Adv.	natürlich	naturally	بطبيعة الحال
	laetitia	laetitiae f.	Freude	joy	فرحة / بهجة
	intelligere	intelligō, intelligēxi, intelligētum	bemerkten	to notice	لاحظ
	intelligere	intelligō, intelligēxi, intelligētum	einsehen	to realise	فهم
	intelligere	intelligō, intelligēxi, intelligētum	verstehen	to understand	فهم
	quoque (nachgestellt)	Adv.	auch	also, too	أيضا
	ēgregius	-a, -um	herausragend	eminent	بارز
	ēgregius	-a, -um	ausgezeichnet	excellent	ممتاز
Lektion 24	Archimēdēs	Archimēdis m.	Archimedes	Archimedes	أرشميدس
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Geschicklichkeit	skill	مهارة
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Kunst	art	فن
	mathēmaticus	-a, -um	mathematisch	mathematical	رياضي / متعلق بالرياضيات
	mathēmaticus	-a, -um	Mathematik-	mathematical	الرياضيات ...

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	īnstrūmentum	īnstrūmentī n.	Gerät	device	جهاز / آلة
	īnstrūmentum	īnstrūmentī n.	Werkzeug	tool	أداة
	ūtilis	ūtile	nützlich	useful	مفيد
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	herstellen	to make	صنع
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	bauen	to build	بنى
	māchina	māchinae f.	Maschine	machine	آلة / ماكينة
	adeō	Adv.	so sehr	so much	هذا القدر / جما / كثيراً
	ut	Konjunktion + Konj.	(so) dass	that	أن
	ut	Konjunktion + Konj.	damit	so that	حتى
	ut	Konjunktion + Konj.	(um ...) zu	(in order) to	لكي / كي
	moenia	moenium n. Pl.	Stadtmauer	city wall	أسوار المدينة
	pendēre	pendeō, pependī, –	hängen	to hang	تعلق
	pendēre	pendeō, pependī, –	herabhängen	to hang down from	تدلى من
	victōria	victōriae f.	Sieg	victory	فوز / نصر
	undique	Adv.	von allen Seiten	from all sides	من كل الجهات
	undique	Adv.	von überall (her)	from every direction	من كل مكان
	cōgere	cōgō, cōgēi, cōāctum + Akk.	jdn. zwingen, etw. zu tun	to force someone to do something	أجبر شخصاً على فعل شيء
	cōgere	cōgō, cōgēi, cōāctum + Akk.	zusammenbringen	to bring together	جمع بينهم
	cōgere	cōgō, cōgēi, cōāctum + Akk.	versammeln	to assemble	عقد
	expūgnāre	expūgnō	erobern	to conquer, to capture	قهر
	praeesse	praesum, praefui, – + Dat.	befehligen	to command	قاد
	praeesse	praesum, praefui, – + Dat.	den Oberbefehl haben über	to be in supreme command of	له القيادة والإمارة على
	pōstulāre	pōstulō	fordern	to demand	طلب
	nē	Konjunktion + Konj.	dass nicht	that ... not	ذلك ... لا
	nē	Konjunktion + Konj.	damit nicht	so that ... not	بحيث لا ...
	mandāre	mandō	übergeben	to entrust, to hand over	عهد إلى / سلم
	mandāre	mandō	auftragen	to instruct	اعطى شخصاً مهمة
	mandāre	mandō	befehlen	to order	طلب
	fōrma	fōrmae f.	Form	form	شكل
	geōmetricus	-a, -um	geometrisch	geometric	هندسي
	animadvertere	animadvertō, animadvertī, animadversum	merken	to notice	راقب
	animadvertere	animadvertō, animadvertī, animadversum	bemerkten	to notice	لاحظ
	turbāre	turbō	stören	to disturb	أزعج
	turbāre	turbō	in Unordnung bringen	to mess up	عثر
	tantus	-a, -um	so groß	so great	شديد الضخامة / شديد الكبر
	tantus	-a, -um	so viel	so much	هذا القدر / جما / كثيراً
	monumentum	monumentī n.	Denkmal	monument	نصب تذكاري
	monumentum	monumentī n.	Grabmal	tomb	نصب مدفن / قبر
	ōrnāre	ōrnō	ausrüsten	to equip	جهز

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	ōrnāre	ōrnō	schmücken	to decorate	زين
	posterī	posterōrum m. Pl.	Nachkommen	descendants	أحفاد
	posterī	posterōrum m. Pl.	Nachwelt	posterity	الأجيال القادمة
Lektion 25	prīnceps	prīncipis m.	Fürst	chief	أمير
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Bürgerschaft	citizenship	المواطنين
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Staat	state	دولة / ولاية
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Bürgerrecht	citizenship rights	حق المواطنة
	dare	dō, dedī, datum	geben	to give	أعطى / منح
	annus	annī m.	Jahr	year	عام / سنة
	exercitus	exercitūs m.	Heer	army	جيش
	persuādēre	persuādēō, persuāsī, persuāsūm + Dat. + ut	überreden	to persuade	أقنع
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	vertrauen	to trust	وثق
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	Glauben schenken	to believe	اعتقد
	placidus	-a, -um	friedfertig	peaceful	مسالم / سلمي / هادئ
	placidus	-a, -um	ruhig	calm	هادئ
	cupidus	-a, -um + Gen.	begierig (nach etwas)	eager for sth	رغبة في شيء / راغب
	cum	Konjunktion + Konj.	als	when	عندما / لما
	cum	Konjunktion + Konj.	nachdem	after	بعد / بعد أن
	cum	Konjunktion + Konj.	weil	since	لأن
	cum	Konjunktion + Konj.	obwohl	although	على رغم
	legiō	legiōnis f.	Legion (Heeresinheit, ca. 4000 – 6000 Mann)	legion (unit of the Roman army, ca. 4000 – 6000 men)	فيلق (فرقة من الجيش مكونة من 4000 - 6000 فرد)
	iter	itineris n.	Weg	way	طريق
	iter	itineris n.	Fahrt	journey	رحلة / سفر
	iter	itineris n.	Marsch	march	مارش / سير
	impellere	impellō, impulī, impulsūm	veranlassen	to instigate	حرض على
	impetus	impetūs m.	Angriff	attack	هجوم
	locus	locī m.	Ort	location	موقع / مكان
	locus	locī m.	Platz	place	مكان / ميدان
	silva	silvae f.	Wald	forest	غاية
	occultāre	occultō	verbergen	to hide	أخفى
	īnsīdiae	īnsīdiārum f. Pl.	Hinterhalt	ambush	كمين
	ēventus	ēventūs m.	Ausgang	outcome	مخرج / نتيجة / عاقبة
	manus	manūs f.	Hand	hand	يد
	cōnspectus	cōnspectūs m.	Anblick	sight	مشهد / نظر / رؤية
	cōnspectus	cōnspectūs m.	Blickfeld	field of view	مجال الرؤية
	petere	petō, petīvī, petitum	angreifen	to attack	هاجم
	petere	petō, petīvī, petitum	aufsuchen	to make for	يزور / يدعو
	petere	petō, petīvī, petitum	fordern	to demand	طلب
	tumultus	tumultūs m.	Tumult	tumult	شغب / جلبة / صخب

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	tumultus	tumultūs m.	Aufbruch	riot	شغب
	tumultus	tumultūs m.	Kriegslärm	uproar	صخب المعركة
	metus	metūs m.	Furcht	fear	خوف
	quattuor		vier	four	أربعة
	fortis	forte	mutig	courageous	شجاع
	fortis	forte	tapfer	brave	شجاع / مقام / جسور
	terribilis	terribile	schrecklich	terrible	رهيب
	trēs	trēs (m.), trēs (f.), tria (n.)	drei	three	ثلاثة
	dēlēre	dēlēō, dēlēvī, dēlētum	zerstören	to destroy	هدم
	servitūs	servitūtis f.	Knechtschaft	servitude	رق / عبودية
	servitūs	servitūtis f.	Sklaverei	slavery	عبودية
	abdūcere	abdūcō, abdūxī, abductum	abführen	to take away	التي القبض على
	abdūcere	abdūcō, abdūxī, abductum	wegführen	to lead away	أبعد
	cadere	cadō, cecidī, –	fallen	to fall	سقط
	clādēs	clādīs f. (Gen. Pl. clādium)	Niederlage	defeat	هزيمة
	caelum	caelī n.	Himmel	sky	سما
	tendere	tendō, tendē, tentum	(aus)strecken	to extend	مدد
	tendere	tendō, tendē, tentum	spannen	to stretch (out)	امتد
Sequenz 6: Abschluss	Verrēs	Verris m.	Verres	Verres	فيريس
	immortālis	immortāle	unsterblich	immortal	خالد / مخلد
	exemplum	exemplī n.	Beispiel	example	مثال
	iūdex	iūdicis m.	Richter	judge	قاضي / القاضي
	oppidum	oppidī n.	Stadt	town	بلدة / مدينة
	vetus	Gen. veteris (Abl. Sg. : -ere, Nom. Pl. n. : -era, Gen. Pl. : -erum)	alt	old	قديم
	aes	aeris n.	Erz	ore	المادة الخام
	aes	aeris n.	Kupfer	copper	نحاس
	aes	aeris n.	Bronze	bronze	برونز
	perficere	perficiō, perfēcī, perfectum	ausführen	to carry out, execute	أدى / نفذ
	perficere	perficiō, perfēcī, perfectum	verfertigen	to perfect	صنع
	dēportāre	dēportō	wegtragen	to carry off	حمل بعيدا
	dēportāre	dēportō	fortschaffen	to take away	أزال
	colere	colō, coluī, cultum	verehren	to worship	عبد
	magistrātus	magistrātūs m.	Beamter	magistrate	مسؤول / موظف
	praeceptum	praeceptī n.	Vorschrift	order	قاعدة / تعليمات
	praeceptum	praeceptī n.	Befehl	command	طلب / أمر
	excitāre	excitō	aufschrecken	to startle	فزع
	excitāre	excitō	aufwecken	to wake	أيقظ
	excitāre	excitō	hervorrufen	to cause	سبب
	excitāre	excitō	erregen	to excite	أثّر

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	senātus	senātūs m.	Ältestenrat	the council of the elders	مجلس الشيوخ
	senātus	senātūs m.	Senat	senate	مجلس الشيوخ
	agere	agō, ēgī, āctum	handeln	to act	تصرف
	agere	agō, ēgī, āctum	tun	to do	فعل
	agere	agō, ēgī, āctum	verhandeln	to negotiate	تفاوض
	resistere	resistō, resistī, –	sich widersetzen	to resist	قاوم
	resistere	resistō, resistī, –	Widerstand leisten	to put up resistance	قاوم
	frūmentum	frūmentī n.	Getreide	grain	حبوب
	cōpia	cōpiae f.	Menge	abundance	كمية / مقدار / مبلغ
	iūs	iūris n.	Recht	right, justice	حق (القانون)
	paulātim	Adv.	nach und nach	little by little	شيئا فشيئا
	paulātim	Adv.	allmählich	gradually	تدرجيا
	perdere	perdō, perdidī, perditum	verschwenden	to waste	ضيع / اهدر
	perdere	perdō, perdidī, perditum	vergeuden	to squander	بدد
	perdere	perdō, perdidī, perditum	zugrunde richten	to destroy	دمر / يهدم
	parēre	pareō, parui, –	gehorschen	to obey	أطاع
	lūctus	lūctūs m.	Trauer	grief, mourning	حداد / حزن / رثاء
	complēre	compleō, complēvi, complētum	erfüllen	to complete, to fulfil	كمل
	complēre	compleō, complēvi, complētum	ausfüllen	to fill up	ملا